

Time: 10 Minutes	Paper Science 8	Total Marks: 10
------------------	-----------------	-----------------

1st Month, 4th Week, 2nd Day Syllabus: Unit # 2, Hindbrain + Spinal cord

Q.No.1 Encircle the correct answer from the following choices. (0.5×6=3)

درج ذیل میں سے درست جواب کا انتخاب کریں اور اُس کے گرد دائرة لگائیں۔

i. The part of hindbrain is: ہائینڈ برین کا حصہ ہے:

(a) Cerebrum سیرې برم	(b) Cerebellum سیرې بلبل
(c) Thalamus ٹھیالامس	(d) Hypothalamus ہائپو ٹھیالامس

ii. ____ acts as a controller for maintaining the body balance and making precise and accurate movements.

جسمانی توازن کو برقرار رکھنے اور درست حرکت کرنے کے لیے ایک کنٹرول کے طور پر کام کرتا ہے۔

(a) Cranium کرینیم	(b) Thalamus ٹھیالامس
(c) Cerebrum سیرې برم	(d) Cerebellum سیرې بلبل

iii. ____ is an oval structure present beneath midbrain.

ٹھرین کے نیچے پائی جانے والی ایک بھروسی ٹھکل کی ساخت ہے۔

(a) Pons پونز	(b) Cell body سیل باؤڈی
(c) Spinal cord سپائن کارڈ	(d) Thalamus ٹھیالامس

iv. Medulla oblongata controls: میڈولا آبلائگیٹیا کنٹرول کرتا ہے:

(a) Hearbeat بریتھنگ	(b) Breathing بریتھنگ کو
(c) Digestive system ڈاگسٹو سسٹم کو	(d) All of these یہ تمام

v. The brain of an adult weighs is about ____ kg۔ ایک بالغ کا ماغ تقریباً

(a) 2.6	(b) 1.5	(c) 3.4	(d) 2.5
---------	---------	---------	---------

vi. ____ creates a link between brain and different body parts.

دماغ اور جسم کے مختلف حصوں کے درمیان ربط قائم کرتا ہے۔

(a) Midbrain ٹھرین	(b) Forebrain فوربرین
(c) Hindbrain ہائینڈ برین	(d) Spinal card سپائن کارڈ

Q.No.2. Write short answers. (2×2=4) مختصر جوابات لکھیں۔

(i) Define pons. پونز کی تعریف کریں۔

(ii) Write the name of parts of hindbrain. ہائینڈ برین کے حصوں کے نام لکھیں۔

Q.No.3. Write long answer. تفصیلی جواب لکھیں۔ (3)

(i) Write a note on spinal cord. سپائن کوڑ پر ایک نوٹ لکھیں۔

Time: 10 Minutes	Paper Science 8	Total Marks: 10
------------------	-----------------	-----------------

1st Month, 4th Week, 2nd Day Syllabus: Unit # 2, Hindbrain + Spinal cord

Q.No.1 Encircle the correct answer from the following choices. (0.5×6=3)

درج ذیل میں سے درست جواب کا انتخاب کریں اور اُس کے گرد دائرة لگائیں۔

ہائینڈ برین کا حصہ ہے:

(a) Cerebrum سیرې برم	(b) Cerebellum سیرې بلبل
(c) Thalamus ٹھیالامس	(d) Hypothalamus ہائپو ٹھیالامس

ii. ____ acts as a controller for maintaining the body balance and making precise and accurate movements.

جسمانی توازن کو برقرار رکھنے اور درست حرکت کرنے کے لیے ایک کنٹرول کے طور پر کام کرتا ہے۔

(a) Cranium کرینیم	(b) Thalamus ٹھیالامس
(c) Cerebrum سیرې برم	(d) Cerebellum سیرې بلبل

iii. ____ is an oval structure present beneath midbrain.

ٹھرین کے نیچے پائی جانے والی ایک بھروسی ٹھکل کی ساخت ہے۔

(a) Pons پونز	(b) Cell body سیل باؤڈی
(c) Spinal cord سپائن کارڈ	(d) Thalamus ٹھیالامس

iv. Medulla oblongata controls:

(a) Hearbeat بریتھنگ	(b) Breathing بریتھنگ کو
(c) Digestive system ڈاگسٹو سسٹم کو	(d) All of these یہ تمام

v. The brain of an adult weighs is about ____ kg۔ ایک بالغ کا ماغ تقریباً

(a) 2.6	(b) 1.5	(c) 3.4	(d) 2.5
---------	---------	---------	---------

vi. ____ creates a link between brain and different body parts.

دماغ اور جسم کے مختلف حصوں کے درمیان ربط قائم کرتا ہے۔

(a) Midbrain ٹھرین	(b) Forebrain فوربرین
(c) Hindbrain ہائینڈ برین	(d) Spinal card سپائن کارڈ

Q.No.2. Write short answers. (2×2=4) مختصر جوابات لکھیں۔

(i) Define pons. پونز کی تعریف کریں۔

(ii) Write the name of parts of hindbrain. ہائینڈ برین کے حصوں کے نام لکھیں۔

Q.No.3. Write long answer. تفصیلی جواب لکھیں۔ (3)

(i) Write a note on spinal cord. سپائن کوڑ پر ایک نوٹ لکھیں۔